



4717CH06



قدرتی نباتات اور جنگلی زندگی (Natural Vegetation and Wild Life)

6

سلیمہ نے موسم گرما کے کیمپ میں حصّہ لیا تھا اور وہ اس لیے بہت خوش تھی۔ وہ اپنے ہم جماعت طلبا کے ساتھ ہماچل پردیش میں 'منالی' کی سیر کرنے گئی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جیوں جیوں بس اونچائی کی طرف چڑھ رہی تھی قدرتی خدو خال اور قدرتی نباتات کی تبدیلیوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوتی تھی۔ دامن کوہ میں واقع سال اور 'ساگوان' کے گھنے جنگل دھیرے دھیرے غائب ہوتے گئے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ پہاڑوں کی ڈھلانوں پر پتلی نوکیلی پتیوں والے مخروطی جنگلات کا شامیانہ تناہوا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ مخروطی جنگلات (CONIFEROUS FOREST) ہیں۔ طویل قامت درختوں پر لگے سرخ پھولوں نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا، وہ روڈوڈینڈرونس کے پھول تھے (RHODODENDRONS) (جو بڑے درختوں پر گلاب کے پھول کی مانند ہوتے ہیں) منالی سے روہتانگ جاتے وقت اس نے دیکھا کہ زمین چھوٹی چھوٹی گھاس اور کچھ جگھوں پر برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔



شکل 6.1: روڈو دینڈرون

سلیمہ کے مشاہدے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین کی اونچائی اور نباتات کی خصوصیات میں ایک قسم کا رشتہ ہے۔ زمین کی بلندی میں فرق آنے سے آب ہوا میں فرق آتا ہے اور آب و ہوا کا فرق نباتات پر اثر انداز ہوتا ہے اس لیے قدرتی نباتات میں بھی بڑھتی اونچائی کے ساتھ فرق آتا چلا جاتا ہے۔ نباتات کی نمود درجہ حرارت اور نمی پر منحصر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مٹی کی پرت کی موٹائی اور زمین کے ڈھال بھی نباتات کی نمو میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان عناصر کے مختلف مقامات پر مختلف ہونے کی وجہ سے ہر جگہ کی نباتات بھی الگ الگ قسم کی ہوتی ہے۔



عملی کام

کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بلندی کے بڑھنے کے ساتھ قدرتی نباتات میں آنے والے کون سی تبدیلیاں سلیمہ نے دیکھیں؟ ہمالیہ پہاڑ کے دامن سے بلندی تک سلیمہ نے کس قسم کی نباتات دیکھی؟



عملی کام

- سلیمہ کی طرح جب آپ کسی نئے مقام کی سیر کے لیے جاتے ہیں جو اس بات کا مشاہدہ کیجیے کہ وہاں موجود مختلف قسم کی قدرتی نباتات کیسی ہے۔ اور اس کے لیے کون سے عناصر ذمہ دار ہیں۔
- غور کیجیے کہ اس علاقے میں شجر کشی، یعنی درختوں کی کٹائی مویشیوں کی چرائی، نقدی فصلوں کا کاشت کاری اور عمارتی سرگرمیوں کی شکل میں انسان کا کتنا دخل ہے۔



شکل 6.2: کانٹے دار جھاڑیاں

کیا آپ کو معلوم ہے؟



ٹراپیکی سدا بہار جنگلات برازیل کے
ٹراپیکی سدا بہار جنگلات اتنے بڑے
اور وسیع و عریض ہیں کہ یہ دنیا کے
پچھڑے لگتے ہیں۔

کیا آپ کو معلوم ہے؟



’انا کوئڈا‘ (Anaconda)، دنیا کا
سب سے بڑا سانپ ہے جو ٹراپیکی
بارانی جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ یہ
مگر مچھ جیسے بڑے جانور کو مار کر کھا سکتا
ہے

عام طور پر قدرتی نباتات کو تین زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(a) جنگلات: یہ ان خطوں میں آگتے ہیں جہاں پر مناسب درجہ حرارت اور بارش کی مقدار ہوتی ہے۔ ان عناصر کی بنیاد پر ہی گھنے اور چھوٹے جنگلات پھلتے پھولتے ہیں۔

(b) گھاس کے میدان، یہ معتدل بارش والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔

(c) کانٹے دار جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں اور گھاس پھوس خشک علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔

سلیمہ اپنی ہمالیہ کی سیر کا حال اپنے والد کو بتا رہی تھی۔ اس کے والد دنیا کے کئی مقامات کی سیر کر چکے ہیں۔ انہوں نے سلیمہ کو مختلف براعظموں میں مختلف مقامات پر پائی جانے والی کئی الگ الگ اقسام کی نباتات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے نیم قطبی علاقوں میں پائے جانے والے مخروطی جنگلات (Coniferous forests) ریگستانی خطوں میں پائی جانے والی کانٹے دار جھاڑیوں اور گھنے ٹراپیکی، سخت لکڑی والے مرطوب جنگلات کے بارے میں بتایا۔ سلیمہ نے سوچا کہ ہمالیائی علاقے میں وہ تمام نباتات پائی جاتی ہے، جو خط استوا سے قطبین کی جانب جانے پر ملتی ہے۔

قدرتی نباتات کی اقسام میں تبدیلی کی اہم وجہ آب و ہوائی کے حالات میں تبدیلی ہے۔ آئیے اب ہم دنیا کے مختلف علاقوں کی قدرتی نباتات کی خصوصیات اور وہاں کی جنگلی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔

جنگلات

مرطوب ٹراپیکی، سدا بہار جنگل

ان جنگلات کو ٹراپیکی بارانی جنگلات بھی کہتے ہیں (6.3) یہ گھنے جنگلات خط استوا پر اور خط جدی اور خط سرطان یعنی ٹراپیکی خطوں (TROPICS) کے پاس پائے جاتے ہیں۔ یہ علاقے گرم ہوتے ہیں اور یہاں سال بھر بارش ہوتی ہے، یہاں کوئی مخصوص خشک موسم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں کے درختوں پر پت جھڑکمل طور پر سال کے کسی خاص حصے میں ہی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ان کو سدا بہار جنگلات کہا جاتا ہے۔ درختوں کے قریب قریب آگے اور ان کی چوٹیوں کے گھنے ہونے کے باعث سورج کی کرنیں زمین تک نہیں پہنچ جاتی ہیں۔ ان جنگلات میں پائے جانے والی لکڑی بہت سخت ہوتی ہے، روز ووڈ، مہوگنی، آبنوس وغیرہ کے درخت یہاں عام طور پر پائے جاتے ہیں۔

ٹراپیکی پت جھڑ والے جنگلات

ٹراپیکی پت جھڑ والے جنگلات کو مانسونی جنگلات بھی کہتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے ایک بڑے حصے میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شمالی آسٹریلیا اور وسطی امریکا کے وسیع

علاقوں میں بھی ملتے ہیں (تصویر 6.4) ان حصوں میں موسمی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خشک موسم میں نمی کو محفوظ رکھنے کے لیے درخت اپنی پیتیاں گرا دیتے ہیں۔ ان جنگلات میں سخت لکڑی کے درخت، سال، ساگوان، نیم اور شیشم ہیں۔



شکل 6.3: ٹراپیکی سدا بہار جنگل



شکل 6.4: ٹراپیکی پت جھڑ جنگل

یہ سخت لکڑی والے درخت فرنیچر، ذرائع نقل و حمل اور عمارتی لکڑی کے طور پر بہت کام آتے ہیں۔ ان خطوں میں عام طور پر شیر، بر شیر، ہاگھی، لنگور اور بندرو وغیرہ جانور ملتے ہیں۔



شکل 6.7: معتدل سدا بہار جنگلات




عملی کام

- ہندوستان میں ٹراپیکی سدا بہار اور ٹراپیکی پت جھڑ والے جنگلات کہاں ملتے ہیں؟
- ہندوستان میں زیادہ تر کس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں؟



شکل 6.5: چیتا



شکل 6.6: سنہرا لنگور



شکل 6.8: ہاتھی



شکل 6.9: کالا تیتھر



شکل 6.10: مونال

معتدل سدا بہار جنگلات

وسطی عرض البلدی ساحلی علاقوں میں واقع ہیں (تصویر 6.7) یہ عام طور پر براعظموں کے مشرقی کناروں پر ملتے ہیں۔ مثلاً جنوب مشرقی ریاستہائے متحدہ امریکا جنوبی چین اور جنوب مشرقی برازیل۔ ان جنگلات میں سخت اور نرم دونوں قسم کی لکڑی والے درخت ملتے ہیں، جیسے اوک، سرو، شاہ بلوط اور یوکلپٹس وغیرہ۔

معتدل علاقوں کے پت جھڑ والے جنگلات

جوں جوں ہم زیادہ بلند عرض البلد کی طرف جاتے ہیں ہمیں معتدل پت جھڑ والے جنگلات کی زیادہ تعداد ملتی ہے۔ یہ ریاست ہائے متحدہ امریکا ملتے ہیں اس کے علاوہ مغربی یورپ کے ساحلی علاقوں میں بھی یہ جنگلات پائے جاتے ہیں۔ یہ اپنی پتیاں خشک موسم میں گرا دیتے ہیں۔ یہاں پر عام طور پر شاہ بلوط، ایش اور بیچ (سفیدے کی قسم کا اونچا درخت) وغیرہ درخت پائے جاتے ہیں۔ ہرن، لومڑی، بھیڑیے وغیرہ جانور یہاں عام طور پر ملتے ہیں، پرندوں میں مختلف قسم کے تیتھر (PHEASANT) کی نسل کے پرندے، اور مونال یہاں پائے جاتے ہیں۔



شکل 6.11: معتدل پت جھڑ والے جنگلات

بحر رومی نباتات

آپ پڑھ چکے ہیں کہ براعظموں کے بیشتر مشرقی اور شمال مشرقی حصے معتدل سدا بہار اور پت جھڑ والے جنگلات سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ براعظموں کے مغربی اور جنوب مغربی کنارے مختلف ہیں۔ یہاں پر بحر رومی نباتات ملتی ہے۔ (تصویر 6.12) اس قسم کی نباتات زیادہ تر یورپ، افریقہ اور ایشیا کے بحروم کے نزدیک والے خطوں میں ملتی ہے اسی نسبت سے اس کا نام پڑا ہے۔ اس قسم کی نباتات بحروم کے اطراف کے علاقوں کے علاوہ ریاست ہائے متحدہ امریکا کے کیلی فورنیا، جنوب مغربی افریقہ، جنوب مغربی جنوب امریکا اور جنوب مغربی

کیا آپ کو معلوم ہے؟

- خط استوائی درخت اپنی سخت چھال اور موٹی چمکدار ریتوں کی مدد سے گرم، خشک آب و ہوا میں اپنے کو ڈھال لیتے ہیں کیوں کہ ان سے ابخارات کے اخراج کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔
- خط استوائی جنگلات کو دنیا کے باغات کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے کیوں کہ یہاں پھلوں کی باقاعدہ کاشت کی جاتی ہے۔

آسٹریلیا میں بھی ملتی ہے۔ ان علاقوں میں خصوصاً گرم و خشک موسم گرما اور ہلکی بارش کا موسم سرما (سردی کا موسم) ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں عام طور پر سنٹرا نیبو جیسے ریلے پھل (CITRUS FRUITS) انجیر، زیتون اور انگور وغیرہ پھلوں کی کاشت کی جاتی ہے کیونکہ لوگوں نے قدرتی نباتات کو صاف کر کے یہاں پر اپنی پسند کے مطابق کاشت شروع کی ہے۔ اس علاقے میں جنگلی جانوروں کی بہت کمی ہے۔



شکل 6.12: بحررومی خطے میں انگور کے باغ

مخروطی جنگلات (COMIFERONS FORESTS)

شمالی نصف کرہ بالائی عرض البلد (50-70) میں یہ مخروطی جنگلات ملتے ہیں (تصویر 6.13) a&b جنگلات کو ٹیگا (TAIGA) بھی کہتے ہیں۔ یہ جنگلات سطح سمندر سے بہت زیادہ اونچائی والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ نرم لکڑی والے سدا بہار جنگلات ہوتے ہیں۔ یہ درخت لگدی بنانے میں کام آتے ہیں جو کاغذ اور نیوز پرنٹ کاغذ یعنی اخبار کے کاغذ کے طور پر کام میں آتے ہیں۔ ماچس کی ڈبیاں اور سامان رکھنے کے ڈبے بھی ملائم لکڑی سے بنائے جاتے ہیں، چپٹر، دیودار اور 'سدرہ' یہاں کے اہم درخت ہیں یہاں پر عام طور پر



شکل 6.13 a: مخروطی جنگلات



شکل 6.13 b: برف سے ڈھلے مخروطی طبی جنگلات



- غور کیجیے کہ آپ کے آس پاس کون سی چیزیں سخت اور کون سی چیزیں نرم لکڑی سے بنی ہوئی ہیں۔
- اپنے محلے کے کچھ درختوں کے نام معلوم کیجیے اور یاد کیجیے۔



روسی زبان میں لفظ ٹیگا کا مطلب ہے جسے کسی نے چھوا نہ ہو۔“



شکل 6.14: ٹراپیکی گھاس کے میدان



شکل 6.15: جیراف

روپہلی لومڑی (SILVER FOX) بینک قطبی بھالو جیسے جانور پائے جاتے ہیں۔

گھاس کے میدان

ٹراپیکی گھاس کے میدان (Tropical Grasslands)

: یہ خط استوا کے دونوں طرف ٹراپکوں کے درمیان (خط جدی اور خط سرطان کے درمیان) پائے جاتے ہیں۔ اس قسم کی نباتات (تصویر 6.14) معتدل بارش والے علاقوں اور کم بارش کے علاقوں

میں ملتی ہے۔ اس قسم کی گھاس کی اونچائی 3 سے 4 میٹر تک ہو جاتی ہے۔ افریقہ میں سوانا گھاس کے میدان اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ہاتھی زیرازراف، ہرن اور تیندوے ان ٹراپیکی گھاس کے میدانوں کے خاص جانور ہیں۔

معتدل گھاس کے میدان (Temperate Grasslands): یہ وسطی عرض البلدی خطوں اور براعظموں کے اندرونی حصوں میں ملتے ہیں۔ عام طور پر یہاں پر گھاس چھوٹی ملائم اور غذائیت بخش ہوتی ہے۔ جنگلی بھینسے، بارہ سنگھے اس علاقے کے خاص جانور ہیں۔

کانٹے دار جھاڑیاں (Thorny Bushes): یہ گرم و خشک ریگستانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ٹراپیکی ریگستان براعظموں کے مغربی کناروں پر واقع ہیں۔ شدید گرمی اور بہت ہی کم بارش کی وجہ سے ان علاقوں میں نباتات بہت کم ہوتی ہے۔ دیے گئے دنیا کے نقشے پر ریگستانی خطے دکھائیے؟

کیا آپ ہندوستان کے بڑے ریگستان کا نام بتا سکتے ہیں؟ ریگستان کے کچھ جانوروں کے نام بتائیے جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔

اگر آپ قطبی علاقوں (POLAR REGIONS) جائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ وہاں شدید سردی ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں قدرتی نباتات بہت کم اور محدود ہوتی ہے یہاں صرف کائی، کائی کی قسم کی چھوٹی نباتات اور جھاڑیاں ملتی ہیں، اور گرمیوں کے قلیل مدتی موسم کے دوران یہ پھلتی پھولتی ہیں۔ اس قسم کی نباتات کی ٹنڈرا قسم (TUNDRA TYPE) کی نباتات کہتے ہیں۔

نباتات ایشیا، شمالی امریکا اور یورپ کے قطبی علاقوں میں ملتی ہے۔ یہاں پر پائے جانے والے جانوروں کے جسم پر بال زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی کھال بھی خاصی موٹی ہوتی ہے تاکہ وہاں کی شدید سرد موسم کو وہ برداشت کر سکیں۔ سیل (SEAL) سمندری ہاتھی (WALRUS) مشکلی نیل، قطبی آٹو سفید بھالو یا قطبی بھالو اور بریلی لومڑیاں یہاں کے خصوصی جانور ہیں۔ (شکل 6.16)

کیا آپ کو معلوم ہے؟

گھاس کے میدانوں کے مختلف نام ہیں۔

ٹراپیکی گھاس کے میدان

مشرقی افریقہ - سوانا

برازیل - کمپاس

ویتنیزولا - لائوس

معتدل گھاس کے میدان

ارجنٹنا - پمپاس

شمالی امریکا - پریری

جنوبی افریقہ - ویلڈ

ایشیا - سٹپسی

آسٹریلیا - ڈاؤن

سلیمہ کے والد نے اسے کچھ گھنے جنگلات کی تصویر دکھائیں۔ سلیمہ نے دیکھا کہ کچھ تصویروں میں لوگ جنگلوں کے درختوں کو کاٹ کر صاف کر رہے ہیں۔ اس کے والد نے بتایا کہ وہاں کے مقامی لوگ زراعت اور آبادی کے لیے زمین حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے جنگلات کو صاف کر دیا۔ سلیمہ سوچنے لگی کہ اگر جنگلات کا صفایا کر دیا جائے گا تو جنگلی جانور کہاں جائیں گے؟ کیا یہ جنگلات دوبارہ پہلی حالت میں واپس آجائیں گے؟ اگر لوگ اسی طرح درختوں کو کاٹتے رہے تو کیا مستقبل میں کافی مقدار میں آکسیجن،



والرس



قطبی بھالو



سیل

شکل 6.16

ابخارات، لکٹری، پھل اور میوے ملیں گے؟ کیا آپ سلیمہ سے متفق ہیں؟ اپنے دوستوں کے ساتھ ختم ہوئی قدرتی نباتات اور جنگلی جانوروں میں ہو رہی کمی پر گفتگو اور تبادلہ خیال کیجیے۔ ان کے تحفظ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے اور چند تجویزیں پیش کیجیے کہ اس قدرتی سرمائے کو کس طرح محفوظ کیا جاسکتا ہے۔



1۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔

- نباتات کی نمونہ دو اہم عناصر پر منحصر ہے؟
- قدرتی نباتات کی تین اہم قسمیں کون سی ہیں؟
- ٹرائپکی سدا بہار جنگلوں میں پائے جانے والے سخت لکٹری کے چند درختوں کے نام بتائیے؟
- دنیا کے کس حصے میں ٹرائپکی پت جھڑ والے جنگلات ملتے ہیں؟
- رس دار پھل (CITRUS) کس قسم کی آب و ہوا میں ملتے ہیں؟
- مخروطی جنگلات کے استعمال اور فائدے بیان کیجیے۔
- دنیا کے کن علاقوں میں موسمی گھاس کے خطے ملتے ہیں؟

2- درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں:

- (i) کائی کی قسم کے چھوٹے پودے ملتے ہیں:
 (a) ریگستانی نباتات میں
 (b) ٹراپیکی سدا بہار جنگلات میں
 (c) قطبی نباتات میں
- (ii) کانٹے دار جھاڑیاں ملتی ہیں:
 (a) گرم و مرطوب ٹراپیکی آب و ہوا میں
 (b) گرم و خشک ریگستانی آب و ہوا میں
 (c) سرد قطبی آب و ہوا میں
- (iii) ٹراپیکی سدا بہار جنگلات کا عام جانور
 (a) بندر (b) زراف (c) اونٹ
- (iv) مخروطی جنگلات کی اہم قسم
 (a) روزوڈ (b) چیڑ (c) ساگوان
- (v) اسٹپی گھاس کے میدان ملتے ہیں:
 (a) جنوبی افریقہ میں (b) آسٹریلیا میں (c) روس میں

3- صحیح جوڑے بنائیے۔

- (i) قطبی ہاتھی (a) نرم لکڑی کے درخت
 (ii) دیودار رصنوبر (b) ٹراپیکی پت جھڑ والے جنگلات کا ایک جانور
 (iii) زیتون (c) ایک قطبی جانور
 (iv) ہاتھی (d) آسٹریلیا کے گھاس کے میدان
 (v) کامپاس (e) خاردار جھاڑی
 (vi) ڈاون (f) ایک رس دار پھل
 (g) برازیل کے ٹراپیکی گھاس کے میدان

4- وجہ بتائیے۔

- (i) قطبی علاقوں کے جانوروں کے بال اور کھال موٹی کیوں ہوتی ہے؟
 (ii) ٹراپیکی پت جھڑ والے جنگلات خشک موسم میں اپنے پتے کیوں گرا دیتے ہیں؟
 (iii) نباتات کی قسمیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر کیوں بدلتی رہتی ہیں؟

5- عملی کام

- (i) دنیا کے مختلف علاقوں کے جنگلات اور ریگستانوں کی تصویریں جمع کیجیے۔ ہر تصویر کے نیچے اس کے تعلق سے ایک جملہ لکھیے
 (ii) بارانی جنگلات مخروطی جنگلات لوز گھاس کے میدان کا کولاج (COLLAGE) بنائیے۔

6۔ کھیل کھیل میں :-

مندرجہ ذیل خاکے (Crossword Table) میں کچھ الفاظ چھپے ہوئے ہیں۔ یہ نباتات اور جانوروں سے تعلق رکھتے ہیں یہ الفاظ افقی اور عمودی شکل میں دیے گئے ہیں ان میں سے دو الفاظ آپ کی آسانی کے لیے مثال کے طور پر دیے گئے الفاظ مکمل کیجیے۔

M	T	N	L	P	L	M	E	H	R	T	B	A	M	B	O	O	P	N	A
B	E	A	R	A	I	X	S	E	E	R	C	M	W	H	A	L	E	D	C
T	L	P	F	L	O	R	A	N	L	E	O	P	A	R	D	C	E	E	M
A	E	I	A	M	N	L	I	C	H	E	N	S	L	F	O	A	P	E	S
N	P	G	U	D	O	G	R	T	Z	X	E	D	R	H	X	M	A	R	J
A	H	T	N	H	N	D	P	I	N	E	S	C	U	I	V	E	L	D	K
C	A	C	A	M	P	O	S	G	V	N	N	A	S	E	A	L	M	Q	U
O	N	A	C	F	O	W	L	E	E	E	A	C	D	E	O	D	A	R	M
N	T	C	H	I	R	N	G	R	V	E	K	T	M	O	S	S	E	S	O
D	O	T	E	A	K	S	R	S	E	M	E	U	S	A	P	C	G	A	N
A	X	U	R	M	A	A	N	G	R	A	S	S	W	K	A	R	Q	V	K
P	S	S	B	H	F	T	A	I	G	A	T	U	L	S	I	U	Y	A	E
G	H	F	I	R	P	R	A	I	R	I	E	S	A	B	E	B	O	N	Y
B	R	B	R	G	O	A	T	D	E	C	I	D	U	O	U	S	W	N	A
T	U	N	D	R	A	X	Z	E	B	R	A	H	O	R	S	E	L	A	K
C	B	E	E	A	X	L	L	A	N	O	S	A	T	P	A	M	P	A	S

نوٹ :- اس پہیلی کے الفاظ انگریزی میں دیے گئے ہیں اور الفاظ بھی انگریزی ہی میں بنانے ہیں۔

